

# Deu

## Chapter 22

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 לֹא- תִרְאֶה אֶת- שׁוֹר אֶחָיִךְ אֹי או- את- אִשׁוֹ וְהִתְעַלְמָתָּ  
 نہیں- ٹو-دیکھے کو- بیل اپنے-بھائی-کا یا کو- اُس-کی-بھیڑ بھٹکے-بوئے اور-ٹو-اندیکھی-کرے  
 H3808 H7200 H0853 H7794 H0251 H0853 H7716 H5080 H5956

מִהֵם אֲנִי- מֵהֵם אֲנִי- מֵהֵם אֲנִי- מֵהֵם אֲנִי-  
 ان-سے ان-سے ان-سے ان-سے ان-سے  
 H1992 H7725 H7725 H7725 H7725

جانا۔ لے واپس پاس کے مالک بلکہ کرنا نہ نظر انداز اُسے تو آئے نظر ہوئی بھٹکی بھیڑ بکری یا بیل کا بھائی وطن ہم کسی تجھے اگر

2 וְאִם- לֹא קָרֹב אֶחָיִךְ אֶלְיָךְ וְלֹא יָדַעְתָּ וְאִם- לֹא תִדְעוּ  
 اور-اگر- نہیں قریب تیرا-بھائی تیرے-سے اور-نہیں ٹو-اُسے-جانتا تو-اکٹھا-کرے میں-  
 H3808 H7138 H0251 H0413 H3808 H3045 H0622 H0413 H8432

בֵּיתְךָ אֲנִי- בֵּיתְךָ אֲנִי- בֵּיתְךָ אֲנִי- בֵּיתְךָ אֲנִי-  
 اپنے-گھر-کے اور-رہے تیرے-پاس جب-تک تلاش-کرے تیرا-بھائی اُسے اور-لوٹائے اُسے  
 H1961 H7725 H0853 H0251 H1875 H5704 H7725 H0853 H0251

نہ ڈھونڈنے اُسے مالک کہ تک جب رکھنا سنبھالے تک وقت اُس کر لا گھر اپنے کو جانور تو بے کون مالک کہ ہو نہ معلوم تجھے یا ہو نہ قریب گھر کا مالک اگر دینا۔ کر واپس اُسے کو جانور پھر آئے۔

3 וְכִן תַּעֲשֶׂה לְחִמּוֹזֶיךָ וְכִן תַּעֲשֶׂה לְשִׁמְלֹתָיִךְ וְכִן תַּעֲשֶׂה לְכָל-  
 اور-ایسا ٹو-کرے اُس-کے-گدھے-کے-ساتھ اور-ایسا ٹو-کرے اور-ایسا ٹو-کرے اور-ایسا ٹو-کرے  
 H2543 H8071 H3605

אֲבֹרְתָהּ אֶחָיִךְ אֲשֶׁר- תֹּאבֵד מִמֶּנּוּ וּמִצֹּאֲתָהּ לֹא תֹכַל לְהִתְעַלֵּם:  
 گمشدگی اپنے-بھائی-کی جو- کھو-جائے اُس-سے اور-ٹو-پائے نہیں ٹو-سکتا-ہے اندیکھی-کرنے-کو  
 H0009 H0251 H0006 H4672 H3808 H3201 H5956

کرنا۔ نہ نظر انداز اُسے آئے۔ نظر کہیں چیز اور کوئی یا کوٹ شدہ گم کا اُس یا آئے نظر ہوا بھٹکا گدھا کا بھائی وطن ہم تیرے اگر کر کچھ یہی

4 לֹא- תִרְאֶה אֶת- חֲמֹרֶיךָ אֶחָיִךְ אֹי یا اُس-کا-بیل שׁוֹרוֹ נִפְלִים בְּיָרְדְךָ וְהִתְעַלְמָתָּ  
 نہیں- ٹو-دیکھے کو- گدھا اپنے-بھائی-کا یا اُس-کا-بیل گرے-بوئے راستے-میں اور-ٹو-اندیکھی-کرے  
 H3808 H7200 H0853 H2543 H0251 H7794 H5307 H1870 H5956

מִהֵם אֲנִי- מֵהֵם אֲנִי- מֵהֵם אֲנִי-  
 ان-سے ان-سے ان-سے ان-سے  
 H1992 H7725 H7725 H7725

کر۔ مدد کی بھائی اپنے میں کرنے کھڑا کو جانور کرنا۔ نہ نظر انداز اُسے تو بے گیا گر میں راستے بیل یا گدھا کا وطن ہم کسی کہ دیکھے ٹو اگر

5 לֹא- יִהְיֶה כְלִי- גֹבֶר עִלְיָךְ אִשָּׁה וְלֹא- יִלְבָּשׁ גֹּבֶר שִׁמְלֹת אִשָּׁה כִּי  
 نہیں- ہو سامان- مرد-کا پر- عورت اور-نہیں- پہنے مرد لباس عورت-کا کیونکہ  
 H3808 H1961 H3627 H1397 H0802 H3847 H1397 H8071 H0802

תּוֹעֵבֶת מְכֻרָה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ כָּל- עֲשֵׂה אֵלֶיךָ:  
 مکروہ یہوواہ تیرے-خدا-کی سب- کرنے-والا یہ  
 H8441 H3068 H0430 H3605 H0428

گھن کو خدا تیرے رب سے اُس بے کرتا ایسا جو ہے۔ منع بھی پہننا کیڑے کے عورتوں لئے کے مرد طرح اسی ہے۔ منع پہننا کیڑے کے مردوں لئے کے عورت ہے۔ آتی

6	כִּי יִקְרָא	קֶן	וַצְפוֹר	לְפָיִק	בְּדֶרֶךְ	בְּכֹל	אֵץ	אֹז	עַל	הָאָרֶץ
	اگر ملے	گھونسلا-	پرنده-کا	تیرے-سامنے	راستے-میں	کسی-	درخت-پر	یا	پر-	زمین
	<a href="#">H7122</a>	<a href="#">H7064</a>	<a href="#">H6833</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H6086</a>			<a href="#">H0776</a>

	אֶפְרָחִים	אֹז	בְּיָצִים	וְהָאֵם	רִבְצֵת	עַל	הָאֶפְרָחִים	אֹז	עַל	הַבְּיָצִים	לֹא
	چوڑے	یا	انڈے	اور-ماں	بیٹھی-بوئی	پر-	چوزوں	یا	پر-	انڈوں	نہیں-
	<a href="#">H0667</a>		<a href="#">H1000</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H7257</a>		<a href="#">H0667</a>			<a href="#">H1000</a>	<a href="#">H3808</a>

תִּקַּח הָאֵם עַל- הַבְּנִים: [H3947](#)  
 ٹولے- ماں ساتھ- بچوں-کے [H0517](#)

پکڑنا۔ نہ سمیت بچوں کو ماں تو ہو یا بیٹھا پر انڈوں یا بچوں اپنے پرندہ اور آنے نظر گھونسلا پر زمین یا میں درخت کسی میں، راستے کہیں تجھے اگر

7	שָׁלַח	תְּשַׁלַּח	אֶת-	הָאֵם	וְאֶת-	הַבְּנִים	תִּקַּח-	לָךְ	לְמַעַן	יֵיטֵב	לָךְ
	ضرور-	ٹو-چھوڑ-دے	کو-	ماں	اور-کو-	بچوں	ٹولے-لے-	اپنے-لیے	تاکہ	بھلائی-ہو	تیرے-لیے
	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H3947</a>		<a href="#">H4616</a>	<a href="#">H3190</a>	

וְהֵאֲרַכְתָּ יָמִים: [H0748](#)  
 اور-لمبی-بو دنوں [H3117](#)

رہے۔ جیتا تک دیر اور حال خوش ٹو تاکہ دینا چھوڑ کو ماں لیکن بے اجازت کی جانے لے بچے تجھے

8	כִּי תִבְנֶה	בֵּית	חֹדֶשׁ	וְעֵשִׂית	מַעֲבָקָה	לְנֶנְךָ	וְלֹא-	תִשִּׂים	דָּמִים
	جب ٹو-بنائے	گھر	نیا	تو-ٹو-بنائے	منڈیر	اپنی-چھت-کے-لیے	اور-نہیں-	ٹو-لگائے	خون
	<a href="#">H1129</a>		<a href="#">H2319</a>		<a href="#">H4624</a>	<a href="#">H1406</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H1818</a>

בְּכִיֹּתָךְ [H5307](#): [H5307](#)  
 اپنے-گھر-پر گرنے-والا اُس-سے

جائے۔ گر سے پر چھت تیری جو گا ٹھہرے دار نہم کا موت کی شخص اُس ٹو ورنہ بنا۔ دیوار طرف چاروں پر چھت وقت کرتے تعمیر مکان نیا

9	לֹא-	תִזְרַע	כְּרִמָּךְ	כְּלָאִים	פֶּן-	תִּקְרָשׁ	הַמְלֵאָה	הַזֵּרַע	אֲשֶׁר	תִּזְרַע
	نہیں-	ٹو-بوئے	اپنا-انگور-کا-باغ	ملی-جلی	ایسا-نہ-ہو-کہ-	مقدس-ہو-جائے	پیداوار	بیج-کی	جو	ٹو-بوئے
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2232</a>	<a href="#">H3754</a>	<a href="#">H3610</a>	<a href="#">H6435</a>	<a href="#">H6942</a>	<a href="#">H4395</a>	<a href="#">H2233</a>		<a href="#">H2232</a>

וְתִבּוֹאֵת הַקָּרָם: [H8393](#)  
 اور-پیداوار انگور-کی [H3754](#)

لگائی علاوہ کے انگور نے تم جو فصل وہ صرف نہ گا، ہو مقدس و مخصوص لئے کے مقدس کچھ سب ورنہ ہونا۔ نہ بیج کے قسم دو میں باغ کے انگور اپنے بھی۔ انگور بلکہ

10	לֹא-	תִּחְרַשׁ	בְּשׂוֹר-	וּבְחֹמֶר	יַחְדָּיו:	ס
	نہیں-	ٹو-ہل-چلائے	بیل-	اور-گدھے-سے	اکٹھے	-
	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H7794</a>	<a href="#">H2543</a>		

چلانا۔ نہ ہل کر جوڑ کو گدھے اور بیل

11	לֹא	תִּלְבַּשׁ	שֵׁעִטָּיו	צִמְרֵךְ	וּפְשָׁתָיִם	יַחְדָּיו:	ס
	نہیں	ٹو-پہنے	ملا-کپڑا	اُون	اور-کتان	اکٹھے	-
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3847</a>	<a href="#">H8162</a>	<a href="#">H6785</a>	<a href="#">H6593</a>		

ہیں۔ گئے ملائے کتان اور اُون وقت بنتے میں جن پہننا نہ کپڑے ایسے

12	גְּדֻלִים	תַּעֲשָׂה-	לָךְ	עַל-	אַרְבַּע	כַּנְפוֹת	כִּסּוּתָךְ	אַשֶׁר	תִּכְסֶּה-	בָּהּ:	ס
	لكن	ٹو-بنائے-	اپنے-لیے	پر-	چار	کونوں	اپنے-چادر-کے	جس-سے	ٹو-اڑھے-	اُسے	-
	H1434				H0702	H3671	H3682		H3680		

لگانا بھندنے پر کونوں چاروں کے چادر اپنی

13	כִּי-	יִקַּח	אִישׁ	אִשָּׁה	וּבֹא	אֵלֶיהָ	וּשְׂנֵאָהּ:
	اگر-	لے	مرد	بیوی	اور-آئے	اُس-کے پاس	اور-اُسے-ناپسند-کرے
	H3947	H0376	H0802	H0935	H0413	H8130	

کرے نہ پسند کو بیوی اپنی بعد دیر تھوڑی کے کرنے شادی آدمی کوئی اگر

14	וְשֵׁם	לָהּ	עֲלֵילָת	דְּבָרִים	וְהוֹצִיא	עֲלֶיהָ	שֵׁם	רָע	וְאָמַר	אֶת-	הָאִשָּׁה	הַזֹּאת
	اور-لگائے	اُس-پر	الزامات	باتوں-کے	اور-نکالے	اُس-پر	نام	بُرا	اور-کہے	کو-	عورت	یہ
	H5949	H1697	H3318	H8034	H0559	H2063	H0802	H0853				

لְקַחְתִּי	וְאֶקְרַב	אֵלֶיהָ	וְלֹא-	מִצְאָתִי	לָהּ	בְּתוּלִים:
میں-نے-لی	اور-میں-آیا	اُس-کے پاس	اور-نہیں-	میں-نے-پایا	اُس-کے لیے	کنوارین
H3947	H7126	H0413	H3808	H4672	H1331	

ہے کنوارے کوئی وہ کہ چلا پتا مجھے بعد کے کرنے شادی سے عورت اس کہے، کے کر بدنامی کی اُس پھر اور

15	וְלִקַּח	אָבִי	[הנער]	(הנערה)	וְהוֹצִיא	וְאָמַר	אֶת-	בְּתוּלִי	[הנער]	(הנערה)
	تو-لے	باپ	—	لڑکی-کا	اور-اُس-کی-ماں	اور-لے-جائیں	کو-	کنوارین	—	لڑکی-کا
	H3947	H0001	H5291	H5291	H0517	H3318	H0853	H1331	H5291	H5291

אֶל-	זְקֵנִי	הָעִיר	הַשְּׂעָרָה:
پاس-	بزرگوں	شہر-کے	بھانک-پر
H0413	H2205	H8179	

تھی۔ کنواری پہلے سے شادی بیٹی کہ آئیں لے ثبوت پاس کے بزرگوں والے ہونے جمع پر دروازے کے شہر والدین کے بیوی میں جواب تو

16	وְאָמַר	אָבִי	[הנער]	(הנערה)	אֶל-	הַזְּקֵנִים	אֶת-	בְּתוּלִי	לְאִישׁ	הַזֶּה
	اور-کہے	باپ	—	لڑکی-کا	سے-	بزرگوں	کو-	اپنی-بیٹی	مرد-کو	اِس
	H0559	H0001	H5291	H5291	H0413	H2205	H0853	H1323	H0376	H2088

לְאִשָּׁה	וַיִּשְׂנֵאָהּ:
بیوی-کے-طور-پر	اور-اُس-نے-ناپسند-کیا
H0802	H8130

ہے۔ کرتا نفرت سے اُس یہ لیکن ہے، کی سے آدمی اِس شادی کی بیٹی اپنی نے میں کہے، سے بزرگوں باپ کا بیوی

17	וְהִנְהֶה	הוּא	שֵׁם	עֲלֵילָת	דְּבָרִים	לְאִמָּר	לָא-	מִצְאָתִי	לְבָתוּלָה	בְּתוּלִים
اور-دیکھو-	وہ	لگایا	الزامات	باتوں-کے	کہتے-ہوئے	نہیں-	میں-نے-پایا	تیری-بیٹی-کے-لیے	کنوارین	کنوارین
H2009	H1931	H5949	H1697	H0559	H3808	H4672	H1331	H1323	H1331	

וְאֵלֶיהָ	בְּתוּלִי	בְּתִי	וּפְרָשׁוּ	הַשְּׂמֻלָּה	לְפָנַי	זְקֵנִי	הָעִיר:
اور-یہ	کنوارین	میری-بیٹی-کا	اور-وہ-پھیلائیں	کھڑا	سامنے	بزرگوں	شہر-کے
H0428	H1331	H1323	H6566	H8071	H6440	H2205	

والدین پھر تھی۔ کنواری بیٹی میری کہ ہے ثبوت یہاں لیکن ہے۔ میں کہے، سے بزرگوں باپ کا بیوی

دکھائیں۔ کھڑا مذکورہ کو بزرگوں کے شہر

18	וְלִקַּחְתִּי	זְקֵנִי	הָעִיר-	הַהוּא	אֶת-	הָאִישׁ	וַיִּסְרֹו	אֹתוֹ:
تو-لیں	بزرگ	شہر-	اُس	کو-	مرد	اور-سزا-دیں	اُسے	
H3947	H2205	H1931	H0853	H0376	H3256	H0853		

دیں، سزا کر پکڑ کو آدمی اُس بزرگ تب

וְעַנְשׁוֹ	אֲתוֹ	מֵאָה	כֶּסֶף	וְנָתַנּוּ	לְאָבִי	הַנְּעֻרָה	כִּי	הוֹצִיאָ	שָׁם	לְעַ
اور-جرمانہ-کریں	اُسے	سو	چاندی	اور-دیں	باپ-کو	لڑکی-کے	کیونکہ	اُس-نے-نکالا	نام	بُرا
<a href="#">H6064</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H5291</a>		<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H8034</a>	

עַל	בְּתוֹלָת	יִשְׂרָאֵל	וְלֹ-	תְּהִיָּה	לְאִשָּׁה	לֹא-	יִוָּכַל	לְשִׁלְחָהּ	כָּל-
پر	کنواری	اسرائیل-کی	اور-اُس-کے-لیے-	وہ-ہو	بیوی	نہیں-	وہ-سکتا-ہے	اُسے-چھوڑنے-کو	سارے-
<a href="#">H1330</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3201</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H3605</a>	

יָמָיו :  
 اُس-کے-دنوں  
[H3117](#)

لازم ہے۔ پڑیں دینے کے 100 کے چاندی کو باپ کے بیوی پر طور کے جرمانے اُسے علاوہ کے اس ہے۔ کی بدنامی کی کنواری اسرائیلی ایک نے اُس کیونکہ گاسکے دے نہیں طلاق اُسے بھر عمر وہ رہے۔ کرتا ادا فرائض کے شوہر وہ کہ ہے

וְאִם-	אָמַת	הָיָה	הַדָּבָר	הָיָה	לֹא-	נִמְצְאוּ	בְּתוֹלָיִם	[לְנַעֲרָה]	(לְנַעֲרָה):
اور-اگر-	سچ	تھی	بات	یہ	نہیں-	پایا-گیا	کنوارین	—	لڑکی-کا
<a href="#">H0571</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H1331</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>

تھی کنواری پہلے سے شادی بیوی کہ سکے ہو نہ ثابت اور نکلے درست بات کی آدمی اگر لیکن

וְהוֹצִיאָ	אֶת-	[הַנְּעֻרָה]	(הַנְּעֻרָה)	אֶל-	פֶּתַח	בֵּית-	אָבִיהָ	וּסְקָלוֹ	אֲנָשִׁי
تو-نکالیں	کو-	—	لڑکی	پاس-	دروازے	گھر-	اُس-کے-باپ-کے	اور-سنگسار-کریں	مرد
<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H6607</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H5619</a>	<a href="#">H0376</a>	

עִירָה	בְּאֲבָנִים	וְמִתָּה	כִּי-	עֲשָׂתָה	נִבְלָה	בְּיִשְׂרָאֵל	לְזָנוֹת	בֵּית	אָבִיהָ
اُس-کے-شہر-کے	پتھروں-سے	اور-وہ-مرے	کیونکہ-	اُس-نے-کیا	حماقت	اسرائیل-میں	زنا-کرنا	گھر-میں	اپنے-باپ-کے
<a href="#">H0068</a>	<a href="#">H4191</a>			<a href="#">H5039</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H2181</a>	<a href="#">H0001</a>		

וּבְעֵרָתָ :  
 اور-ٹو-دُور-کرے  
 بُرائی-کو  
 اپنے-درمیان-سے  
[H7130](#)

ایک میں اسرائیل نے اُس سے کرنے بدکاری ہوئے ربتے میں گھر کے باپ اپنے کیونکہ دیں۔ کر سنگسار اُسے آدمی کے شہر وہاں جائے۔ لایا گھر کے باپ اُسے تو گادے مٹا بُرائی سے درمیان اپنے ٹو یوں ہے۔ کی حرکت بے دین اور احمقانہ

כִּי-	יִמְצָא	אִישׁ	אִשְׁכּוּב	עִם-	אִשָּׁה	בְּעֻלָּת-	זָנוּ	וּמִתּוֹ	שְׁנֵיהֶם	הָאִישׁ
اگر-	پایا-جائے	مرد	لیٹا-ہوا	ساتھ-	عورت	شادی-شدہ-	شوہر-والی	تو-میں	بھی-	دونوں
<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H7901</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H1166</a>	<a href="#">H1167</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H0376</a>	

הַשֹּׁכֵב :  
 لیٹنے-والا  
 ساتھ-  
 عورت-کے  
 اور-عورت  
 اور-ٹو-دُور-کرے  
 بُرائی-کو  
 اسرائیل-سے  
[H7901](#)

گادے مٹا بُرائی سے اسرائیل ٹو یوں ہے۔ دینی موت سزائے کو دونوں تو جائیں پکڑے وہ اور کرے زنا ساتھ کے بیوی کی کسی آدمی کوئی اگر

כִּי	יְהִיָּה	[נָעֵר]	(נְעֻרָה)	בְּתוֹלָה	מֵאֲרָשָׁה	לְאִישׁ	וּמִצְאָה	אִישׁ	בְּעִיר	וְשֹׁכֵב
اگر	ہو	—	لڑکی	کنواری	منگنی	مرد-کی	اور-پائے	مرد	شہر-میں	اور-لیٹے
<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H1330</a>	<a href="#">H0781</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H7901</a>		

עִמָּה :  
 اُس-کے-ساتھ

جائے ہو بستر ہم ساتھ کے اُس وہ اور ہے ہوئی منگنی ساتھ کے اور کسی کی جس ہو سے کنواری ایسی کسی ملاقات کی مرد کسی میں آبادی اگر

24	וְהוֹצִיאָתֶם	אֶת-	שְׁנֵיהֶם	אֶל-	וַשְׁעַר	הָעִיר	הַהוּא	וּסְקִלְתֶם	אֹתָם	בְּאֲבָנִים
	تو-نکالو	کو-	دونوں	پاس-	بھاٹک	شہر-کے	اُس	اور-سنگسار-کرو	انہیں	پتھروں-سے
	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H5619</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0068</a>	
	וּמָתוֹ	אֶת-	[הנער]	(הנערה)	עַל-	דְּבַר	אֲשֶׁר	לֹא-	צָעֲקָה	בְּעִיר
	اور-وہ-مریں	کو-	—	لڑکی	وجہ-سے-	بات	کہ	نہیں-	اُس-نے-چلایا	شہر-میں
	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H6817</a>	<a href="#">H0853</a>	
	הָאִישׁ	עַל-	דְּבַר	אֲשֶׁר-	עָנָה	אֶת-	אִשְׁתּוֹ	רַעְיוֹ	וּבְעֵרָתָ	הָרַע
	مرد	وجہ-سے-	بات	کہ-	اُس-نے-دکھ-دیا	کو-	بیوی	اپنے-پڑوسی-کی	اور-ٹو-ڈور-کرے	بُرائی-کو
	<a href="#">H0376</a>		<a href="#">H1697</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H7453</a>	<a href="#">H7451</a>		

ס : מִקְרָבָד :

اپنے-درمیان-سے  
[H7130](#)

کا مرد تھے۔ آباد لوگ جگہ اُس اگرچہ پکارا نہ لئے کے مدد نے لڑکی کہ ہے یہ وجہ کرو۔ سنگسار کر لا پاس کے دروازے کے شہر کو دونوں تم کہ ہے لازم تو گادے مٹا بُرائی سے درمیان اپنے تو یوں ہے۔ کی دری عصمت کی منگیتر کی اور کسی نے اُس کہ تھا یہ جرم

25	וְאִם-	בְּשָׂרָהּ	יִמָּצֵא	הָאִישׁ	אֶת-	[הנער]	(הנערה)	הַמְאָרְשָׁה	וְהַחֲזִיק-	בָּהּ	הָאִישׁ
	اور-اگر-	کھیت-میں	پائے	مرد	کو-	—	لڑکی	منگنی	اور-پکڑ-لے-	اُسے	مرد
	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H0781</a>	<a href="#">H2388</a>	<a href="#">H0376</a>		
	וְשָׁכַב	עִמָּהּ	וּמָת	הָאִישׁ	אֲשֶׁר-	שָׁכַב	עִמָּהּ	לְבָדוֹ:			
	اور-لیٹے	اُس-کے-ساتھ	تو-مرے	مرد	جس-نے-	لیٹا	اُس-کے-ساتھ	اکیلا			
	<a href="#">H7901</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H7901</a>		<a href="#">H0905</a>					

جائے دی موت سزائے کو اسی صرف تو کرے دری عصمت کی منگیتر کی اور کسی میں جگہ غیرآباد مرد اگر لیکن

26	[ולנער]	(ולנערה)	לֹא-	תַעֲשֶׂה	דָּבָר	אִין	[לנער]	(לנערה)	תִּמָּא	מָוֶת	כִּי
	—	اور-لڑکی-کو	نہیں-	ٹو-کرے	کچھ	نہیں	—	لڑکی-کا	گناہ	موت-کا	کیونکہ
	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H2399</a>	<a href="#">H4194</a>		
	כְּאִשֶׁר	יָקוּם	אִישׁ	עַל-	רַעְיוֹ	וּרְצָחוֹ	זָפַשׁ	כִּן	הַדְּבָר	הַזֶּה:	
	جیسا	اُنھے	مرد	خلاف-	اپنے-پڑوسی	اور-قتل-کرے	جان	ایسا	بات	یہ-ہے	
	<a href="#">H0376</a>		<a href="#">H7453</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H7523</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H1697</a>				

حملہ پر کسی نے جس ہے برابر کے شخص اُس حرکت کی والے کرنے زیادتی ہو۔ لائق کے موت جو کیا نہیں کچھ نے اُس کیونکہ دینا، نہ سزا کوئی کو لڑکی ہے۔ دیا کر قتل اُسے کے کر

27	כִּי	בְשָׂרָהּ	יִמָּצֵא	אִישׁ	[נער]	(נערה)	הַנְּעָרָה	וְהַחֲזִיק	מוֹשִׁיעַ	לָהּ:
	کیونکہ	کھیت-میں	اُس-نے-پایا	چلایا	—	لڑکی-نے	منگنی	اور-نہیں-تھا	بچانے-والا	اُس-کا
	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H6817</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H0781</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H3467</a>	

ס

سکا۔ بچا نہ کوئی اُسے تو بھی پکارا لئے کے مدد نے لڑکی اگرچہ لئے اس رہتے، نہیں لوگ جہاں پایا وہاں کو لڑکی نے اُس چونکہ

28	כִּי-	יִמָּצֵא	אִישׁ	[נער]	(נערה)	בְּתוֹלָהּ	אֲשֶׁר	לֹא-	אֲרֻשָׁה	וּתְפֹשָׂה	וְשָׁכַב
	اگر-	پائے	مرد	—	لڑکی	کنواری	جو	نہیں-	منگنی	اور-پکڑے	اور-لیٹے
	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H1330</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7901</a>	<a href="#">H8610</a>	<a href="#">H0781</a>	<a href="#">H7901</a>	

عَمَّا :  
اُس-کے-ساتھ اور-پائے-جائیں  
[H4672](#)

جائے پکڑا انہیں اگر ہے۔ ہوئی نہیں منگنی کی جس کرے دری عصمت کی لڑکی کسی آدمی کوئی ہے سکتا ہو

29	וְלֹא-	וְלֹא-							
	اور-اُس-کے-لیے-	اور-اُس-کے-لیے-							
	<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H2572</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H7901</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H5414</a>	
	وְלֹא:	وְלֹא:							
	اُس-کے-دنتوں	اُس-کے-دنتوں							
	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H3201</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H1961</a>	

ס

وہ بلکہ یہ صرف نہ ہے۔ کی دری عصمت کی اُس نے اُس کیونکہ کرے، شادی سے لڑکی اُسی وہ کہ بے لازم دے۔ سیکے 50 کے چاندی کو باپ کے لڑکی وہ تو  
سکتا دے نہیں طلاق اُسے بھر عمر

30	וְלֹא-								
	اپنے-باپ-کا								
	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H3671</a>	<a href="#">H1540</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H3947</a>

ہے۔ کرتا ہے حرمتی کی باپ اپنے وہ کرے یہ کوئی جو ہے۔ منع کرنا شادی سے بیوی کی باپ اپنے